

ما قالته أخت فوسى

Det systera til Vusi sa

- ✎ Nina Orange
- ✑ Wiehan de Jager
- ❑ Maaouia Haj Mabrouk
- 💬 arabisk / nynorsk
- 🔊 nivå 4

(uten bilder)



في صباح باكر من أحد الأيام، نادت الجدة حفيدتها فوسى قائلة: ”فوسى، أرجو أن تأخذ هذه البيضة لوالديك. ي يريدان تحضير كعكة كبيرة بمناسبة حفل زفاف اختك“.

...

Tidleg ein morgen ropte bestemora til Vusi på han: ”Vusi, ver snill og ta med dette eggem til foreldra dine. Dei vil laga ei stor kake til bryllaupet til syster di.“

وفي طريقه إلى منزل والديه، اعترض فوسي ولدين يقطفان الفواكه. خطف أحد الولدين البيضة من يد فوسي وألقى بها على شجرة فتهشمّت البيضة.

• • •

På veg til foreldra sine møtte Vusi to gutter som plukka frukt. Éin gut snappa egget frå Vusi og kasta det på eit tre. Egget knuste.

صاحب فوسي: "ماذا فعلت؟ البيضة كانت لصنع كعكة، والكعكة كانت لحفل زفاف أختي. ماذا ستقول أختي إذا لم يكن في العرس كعكة؟".

• • •

"Kva har du gjort?" ropte Vusi. "Det egget var meint for ei kake. Kaka var til bryllaupet til syster mi. Kva kjem syster mi til å seia viss det ikkje vert nok a bryllaupskake?"

أَسْفَ الْوَلَدَانِ لِإِزْعاجِهِمَا لِفُوسِي وَقَالَ أَحَدُهُمَا: "لَنْ نُسْتَطِعَ الْمَسَاعِدَةَ فِي صَنْعِ الْكَعْكَةِ، لَكِنَّهَا هِيَ عَصَى لِلْمَشَى، خَذْهَا لِأَخْتَكَ". أَخْذَ فُوسِي الْعَصَى وَوَاصَّلَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَنْزَلِ.

...

Gutane var lei seg for at dei erta Vusi. "Vi kan ikkje hjelpa deg med kaka, men her er ein kjepp til syster di", sa han eine. Vusi heldt fram på reisa.

وفي الأثناء، التقى فوسي رجلين يبنيان منزلاً. سأله أحدهما: "هل يمكننا أن نستخدم تلك العصا الغليظة التي بيده؟". لكن العصا كسرت لدى استعمالها، لأنها لم تكن قوية بالقدر الكافي لاستخدام في البناء.

...

På vegen møtte han to menn som bygde eit hus. "Kan vi bruka den sterke kjeppen?" spurde han eine. Men kjeppen var ikkje sterk nok for bygningen, så han knakk.

صاحب فوسي: "ماذا فعلتما؟ تلك العصا كانت هدية لأختي. لقد أعطاني إياها جاما الفواكه اللذان كسرنا البيضة التي كنا سوف نستخدمها لعمل كعكة لأختي بمناسبة زواجهما. أما الآن، فلا بيضة ولا كعكة ولا هدية. ماذا ستقول أختي؟"

...

"Kva har du gjort?" ropte Vusi. "Den kjeppen var ei gåve til syster mi. Fruktplukkarane gav meg den kjeppen fordi dei knuste eget som var meint for kaka. Kaka var meint for bryllaupet til syster mi. No er det ikkje noko egg, ikkje noka kake, og ikkje noka gåve. Kva kjem syster mi til å seia?"

أَسْفَ الْبَنَاءَنْ عَلَى كَسْرِ الْعَصَا. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: "لَنْ نُسْتَطِعْ فَعْلَ شَيْءٍ بِخَصْوصِ الْكَعْكَةِ، لَكِنْ هَذَا بَعْضُ الْقَشِّ، خَذْهُ لِأَخْتَكَ". أَخْذَ فُوسِيَ الْقَشَ وَوَاصَلَ طَرِيقَهُ.

• • •

Bygningsarbeidarane var leie seg for at dei knakk kjeppen. "Vi kan ikkje hjelpe deg med kaka, men her er litt halmtekke for huset til syster di", sa den eine. Og slik heldt Vusi fram på reisa.

وبينما هو في طريقه إلى البيت، اعترضه مزارع و معه بقرة. قالت البقرة: "هذا القش لذيد، هل لي بقضمته منه؟" لكن القش كان حلو المذاق لدرجة أن البقرة التهمته كلها.

...

På vegen møtte Vusi ein bonde og ei ku. "For noko herleg halm, kan eg få ein smakebit?" spurde kua. Men halmen smakte så godt at kua åt opp alt!

صاحب فوسي: "ماذا فعلت أيتها البقرة؟ ذاك القش كان هدية لأختي. أعطاني إياه
البناءان بعد أن كسرها العصا التي تسلمتها من جامعي الفواكه الذين هُشّما البيضة
التي كنا سنصنع بها كعكة لعرس اختي. لم يعد لي الآن لا بيضة ولا كعكة ولا
هدية... ترى ماذا ستقول اختي؟".

...

"Kva har du gjort?" ropte Vusi. "Den halmen var ei gâve
til syster mi. Bygningsarbeidarane gav meg den halmen
fordi dei knakk kjeppen frå fruktplukkarane.
Fruktplukkarane gav meg kjeppen fordi dei knuste egget
meint for kaka til syster mi. Kaka var meint for bryllaupet
til syster mi. No er det ikkje noko egg, ikkje noka kake, og
ikkje noka gâve. Kva kjem syster mi til å seia?"

اعتذرت البقرة لجشعها، أما المزارع فقد قرر أن يسلم البقرة لفوسي كهدية لأنّه أخذ فوسي البقرة وواصل طريقه.

• • •

Kua var lei seg for at ho var grådig. Bonden vart samd i at kua skulle følgja med Vusi som ei gāve til syster hans. Og slik heldt Vusi fram.

لكن، وبحلول وقت العشاء فرت البقرة هاربة ورجعت إلى المزارع الذي سلمها لفوسي. أضاع فوسي طريقه ووصل متأخراً جداً لحفل زفاف أخته، فقد وجد المدعوين بقصد تناول الطعام.

...

Men kua sprang tilbake til bonden rundt middagstid. Og Vusi gjekk seg vill på reisa. Han kom fram veldig seint til bryllaupet til syster si. Gjestene var allereie i gang med å eta.

صاحب فوسي: "ماذا عساي أن أفعل الآن؟ ... لقد هربت البقرة، هدية العرس التي منحني إياه المزارع مقابل القش الذي سلمني إياه البناء ان عندما كسرنا العصا التي أعطاني إياها جامعا الفواكه بعد أن هشما البيضة التي كنا سنصنع بها كعكة زفاف اختي. أما الآن فلا بيهضة ولا كعكة ولا هدية".

...

"Kva skal eg gjera?" ropte Vusi. "Den kua som sprang bort var ei gâve til gjengjeld for halmen som bygningsarbeidarane gav meg. Bygningsarbeidarane gav meg halmen fordi dei knakk kjeppen frå fruktplukkarane. Fruktplukkarane gav meg kjeppen fordi dei knuste eget som var meint for kaka. Kaka var meint for bryllaupet. No er det ikkje noko egg, ikkje noka kake, og ikkje noka gâve."

فكرت أخت فوسي قليلاً ثم قالت: "أخي، لا تهمني الهدايا، ولا الكعكة. نحن هنا معا، وأنا سعيدة. اذهب الآن والبس ثيابك الجميلة و تعال، نحتفل بهذا اليوم السعيد معاً". وكان ذاك ما فعله فوسي.

...

Systera til Vusi tenkte eit bel, så sa ho: "Vusi, kjære bror, eg bryr meg verkeleg ikkje om gåver. Eg bryr meg ikkje ein gong om kaka! Vi er alle saman samla her, så eg er glad. Så ta på deg nokre fine klede og la oss feira denne dagen!" Så det var det Vusi gjorde.



Barnebøker for Norge

barneboker.no

ما قالته أخت فوسى

Det systera til Vusi sa

Skrevet av: Nina Orange

Illustret av: Wiehan de Jager

Oversatt av: Maaouia Haj Mabrouk (ar), Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreforsidlet av Barnebøker for Norge (barneboker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons
[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](#).